

سماحہ تی حکیم چاوی بہ زانا ٹائینیہکانی پارہزگای نینہوا دکووت و گرنگی دامودگا ٹائینیہکان دوویات دکاتووہ لہ گگاگرتن لہ دیاردی خراپ و پشکشدنی پیمامی استہقینہی ٹیسلام



بہتر عمارت حکیم سرکی ہاویہیما ننتی ہزکانی دہووتی نیشتمانی سہردانی لہ پارہزگای نینہوا سہردانی مہرقہدی نہی شیتی کرد (سلاوی لہبت)، لہم سہردانہ بہہزیان چاوی کوت بہ کمہہک زانایانی ٹیسلامی بہہتر و سہرتا بہہزیان پیرہزبایی مانگی جہی لہکردن و دہخشی خہی دہریہی بہ بہیاری وستانی ناگر و شہر لہ غہرہ.

سماحہ تی دوویات کردووہ کم شہہکان پشکشدن و دواکووتن بہخہیوہ دہبینن لہگہہ ہہتر و فشار ٹہوش شتہکی ناسایی لہکاتی مہملانہہکان، نامازہشی کرد کم پاشہکشہی ٹیسرائیلی تہواو لہ غہرہ و گہہانہوی ٹاوارہکان بہ باکووری وک سہرکہوتنہکی استہقینہ وایہ بہ گہلی فہلہستینی وونیشیکردووہ کم ووداواکانی حہوتی ٹہکتہہر فہلسہفہی ٹہوی ہہنا خوارووہ کم ہاسی لہ مہزہومیہ تی ٹسرائیل دہکرد گوتشی ٹہوی لہ غہرہ کرا ٹہو کارتہی لہدہست داگیرکہری ٹیسرائیلی ہہناہی دہرہووہ.

سماحہ تی ہاسی رہہی تیرہی لہ بہ ناما نہکردنی ٹیسلام کرد و نامازہی کرد کم تیرہ کاری بہ ٹہووہ کردووہ کم بہہکانی ٹیسلام ہشہووہنت و ٹہویش لہگہہی جودا کردنہووہ و بہکارہہنانی چہند ٹاہی تہکی پیرہز بہ پاسا و ہہنا نہووہ بہ توندوتیژی و کوشتن، ہہروہا داوا لہ زانایانی ٹینی کرد کم پیمامی استہقینہی ٹیسلام پشکشدن ہکن و دژاہی تی ٹہو دیاردانہ ہکن لہ گوتاری ٹینی تازہ کم لہگہہ ہکا بہریہہکان پہویستی ٹہو سہردہمہ دہگونجہت.

سماحہ تی جہختی کردووہ لہسہر ٹہوی کم دامودہزگای ٹینی بہرپرسبارہتی گہورہ دہگرت ٹہستہ بہ بہرہنگاریہوونہوی ٹہو دیاردہ کمہہایہی تی و رہشہہبیریہہ خراپہکان کم زیان بہ گہکگہگا دہگہہہنت و دوویات کردووہ کم پہویستہ کہرسنہکانی گوتاری ٹینی پشہخرت کم بہشہووہہک بہت زیاتر کاریگہر بہت لہ ووہووہووونہوی ہکا بہریہہکانی ٹہستادا.

لہکہ تایی دیدارہکدا، سماحہ تی حکیم دوویات کردووہ کم پہویستہ ہکانی زانایانی ٹینی گہورہ تر بہت لہ بہا و کردنہوی پیمامی ناشتی و ناوہنگیری و دژاہی تی کردنی ہہر ہہووہک کم دہہہوت و ہہہی ٹیسلام ہشہووہنت و بہ مہامی تاییہ تی خہی بہکار بہہہنت.